



HEMAYAH
EFU FAMILY TAKAFUL



EFU TAKAFUL ACCELERATED SAVING PLAN

**EMPOWERING YOUR SAVINGS,
SAFEGUARDING YOUR TOMORROW**

EFU Takaful Accelerated Saving Plan

EFU Life Takaful Accelerated Plan is a Shariah compliant, unit linked investment takaful designed to maximize long-term financial growth and protection through a single lump-sum payment—eliminating yearly contributions and associated administrative hassle.

This powerful hybrid solution allows customers to invest once and accelerate savings, benefiting from higher initial unit allocation to reach an early break-even and achieve stronger investment returns over time. Meanwhile, comprehensive takaful coverage ensures that your loved ones are protected throughout the plan's full term, offering true peace of mind.

This Plan has been reviewed and approved by the Shariah Advisor of EFU Life -Window Takaful Operations, Mufti Muhammad Ibrahim Essa who is a prominent scholar from Jamiah Darul Uloom, Karachi & has a vast experience of Islamic finance and Takaful.



Disclosure of Product:

This is a Family takaful product which has two distinct elements i.e., Protection and Investment. The Investment Component is linked to the performance of underlying assets under unit linked fund(s).

Free Look Period:

If you decide to cancel your membership within fourteen days of receiving the membership document, you are entitled for a full refund of Contribution as a benefit less any expenses incurred by EFU Life - WTO in connection with our medical or clinical examinations.

Plan Objective:

Eligible Age	18- 65 years next birthday
Minimum Contribution	Minimum contribution is Rs. 20,000; there is no maximum limit
Contribution payment term	10 Years
Coverage Term	15 or 20; subject to the maturity of 80 years
Sum Covered	Annual Contribution X Cover Multiple

Opportunities for Growth:

All available funds are categorized with their risk profiling as per the investment criteria.

Funds		
EFU Takaful Growth Fund	EFU Takaful Conservative Fund*	EFU Takaful Aggressive Fund
Fund Categorization: Balanced	Fund Categorization: Income Fund	Fund Categorization: Aggressive
Risk Profile: Medium	Risk Profile: Low	Risk Profile: High
A unit-linked Participants' Investment Account (PIA) comprising Shariah-Compliant investments. The objective of the fund is to maximize capital growth by investing in a portfolio spread across a wide range of investments such as Islamic mutual funds, approved equities, term deposits in Islamic Banks, and Sukuk Bonds	EFU Takaful Conservative Fund has a conservative investment allocation strategy and low risk. This is a unit-linked Participants' Investment Account (PIA) comprising Shariah-compliant government securities, non-equity Shariah compliant mutual funds, Shariah-compliant short-term deposits, and cash in Islamic banks or Islamic windows of conventional banks. The fund aims to provide stable investment returns with minimal risk and is suitable in times of the volatile stock market	A unit-linked Participants' Investment Account (PIA) comprising Shariah-Compliant investments, aimed at maximizing capital growth by using investments with an aggressive market outlook.

***EFU Takaful Conservative Fund to be selected by default**


Multiple Funds Option: Under this option you have a facility to select a mix of two unit linked funds of the plan. Total contribution under your membership will be allowed to be distributed in funds in multiples of 10%. It means that the funds split can be of 90/10, 80/20, 70/30, 60/40 or 50/50.

What is Takaful?

Takaful is a Shariah compliant way of safeguarding yourself and your family against future financial losses. A Takaful product assists participants to share their risk on the basis of cooperation, brotherhood, mutuality and solidarity for the common good.

How does the Takaful Membership operate?

EFU Life's Takaful model is founded on the Wakalah-Waqf principle. Individuals in the community come together for a common purpose and contribute into a Waqf Fund operated by a Takaful Operator to protect themselves against future financial losses. The following pictorial representation summarizes how your Takaful membership will operate with EFU Life - WTO:



What is Surplus Sharing?

Takaful offers a unique feature of Surplus Sharing to the Participants in addition to risk mitigation benefits. By contributing Tabarru (donation) into the Participant's Takaful Fund (PTF), the participant may be entitled to a share of possible surplus funds. At the end of each year, EFU Life -Window Takaful Operations will determine the surplus in the PTF based on the method approved by the Shariah Advisor and Appointed Actuary.

What are the benefits of Surplus Sharing?

A part of the surplus may be distributed back to the participant in the form of Bonus Units through additional unit allocation in the Participant's Investment Account (PIA). These Bonus Units will enhance the Cash Value of your Takaful plan.

Waqf Donation:

Waqf Donation, which depends on the Takaful cover and age of the Participant, will be transferred from Basic Plan Contribution into Participants Takaful Fund (PTF).

Benefits:

Death Benefit:

On death, the benefit payable is equal to:

Sum of the sum covered of the plan AND the Cash Value of units allocated against the basic contribution.

Plus

The Cash Value of units allocated against FAC payments (if any)

Maturity Benefit:

At the end of the membership term and while the participant is alive, the maturity benefit may be payable as follows:

- Cash value of the units allocated against the Basic Plan Contribution Plus
- Cash Value units allocation against FAC- (if any)

Sum Covered:

The sum covered will be determined as:

- Sum Covered = Annual Contributions time cover multiple.

Built-In Benefit:

Takaful Accidental Death Benefit:

In case of accidental death of the Participant, an additional lump sum benefit will be paid. The benefit amount will be equal to natural death benefit subject to maximum benefit amount of PKR 1 million. This Takaful Accidental death benefit is applicable if age next birthday is below 60 years

Optional Benefit:

Takaful Accidental Death and Disability plus Benefit:

This benefit provides an additional lump sum benefit in case of accidental death or disability including Permanent and total disability of the participant.

The contribution of this benefit for the entire benefit payment term shall be paid as lump sum payment at the start of the membership in Lump Sum.

Unit Allocation

Year-wise allocation percentages of the participant's contribution are shown in the table below:

Year	Allocation	Allocation Charges*
Year 1	65%	35%
Year 2	85%	15%
Year 3 & onwards	105%	0%

100% of FAC payments are allocated to purchase units in the selected fund.

***Allocation Charges will be deducted from the Paid Contribution every year as per the above table and the remainder will be allocated to the PIA.**

Cover Multiple:

Age	Cover Multiple	
	Minimum	Maximum
18-35	5	35
36-40	5	25
41-49	5	10
50-65	5	

Initial Fund Acceleration Contribution (IFAC):

Advance Contributions will be split into Initial Fund Acceleration Contribution and First Regular Contribution. First regular contribution will be allocated in the Main Plan as per the Allocation mentioned above and the remaining will be allocated as Initial FAC. At each membership anniversary the main plan contribution will be deducted from cash value of this initial FAC and will be invested on bid-to-bid basis in main plan. Similar activity will be done for benefits until benefit matures

Subsequent Fund Acceleration Contribution (SFAC):

In case the Participant has extra funds available, the plan provides the flexibility to channel these to the Plan and provide a boost to the savings. These lump sum contributions are called Subsequent Fund Acceleration Contributions (SFAC) and can be paid anytime while the membership is in-force.

Complete and Partial Surrender:

WTO will charge an additional Wakalat-ul-Istismar fee equivalent to 50% of the total cash value in case of surrender before payment of two full-year contributions. At the time of withdrawal, you will be paid the full cash value of your fund. However, withdrawal in early membership years may result in lower cash value. A facility for partial withdrawals is also available subject to Rs. 20,000 remaining in the fund if the customer opts for complete surrender, all units will be encashed and the plan will be terminated.

Indexation:

This option gives you the security and peace of mind of knowing that the benefits provided by your plan will be automatically updated in line with inflation every year regardless of your health. Once you select this option, contributions will increase every year by 5% of the initial contribution with an appropriate increase in benefits.

Claim:

In case of an unfortunate event, you may file your claim intimation through any National Bank Pakistan Limited Branch walk in, visiting the EFU Head Office or by visiting any of the EFU branches in the country. For a swift speedy process you may also call us at our call center (021-111-338-436) or simply visit our website, fill in the intimation form and email it to us at cod@efuhemayahtakaful.com. Thereafter, you will be contacted for next steps.

What are the charges?

Charges	Rate / PKR
Administration Charge	Rs. 960 per annum
Investment Management Charge	0.125% of the fund value per month
Bid/Offer Spread	5% of the net contribution
Fund Switching Fee	PKR 500
Additional Wakalat-ul-Istismar fee	An additional Wakalat-ul-Istismar fee equivalent to 50% of the total cash value will be charged in case of surrender before payment of two full-year contributions.

Takaful Donation (Waqf Donation):

An age-based Takaful Donation applies for the Takaful cover each year and is dependent on the sum at risk. No Takaful Donation charges applies in years where the cash value exceeds sum covered.

Wakalah Charge:

50% of the Takaful Donation.

Disclaimer:

- This product is underwritten by EFU Life - Window Takaful Operations. It is not guaranteed or covered by National Bank Pakistan Limited or its affiliates and is not a product of National Bank Pakistan Limited. Hence EFU Life - Window Takaful Operations is responsible for all underwriting risk.
- National Bank Pakistan Limited is just a promoter/ distributor and corporate takaful agent of this product to its valued customers.
- All Takaful Claims, charges and payments relating to the Takaful Policies shall be the sole and exclusive responsibility of EFU Life - Window Takaful Operations.
- The past performance of the fund is not necessarily a guide to future performance. Any forecast made is not necessarily indicative of future or likely performance of the funds and neither EFU Life - Window Takaful Operations nor National Bank Pakistan Limited will incur any liability for the same.
- A personalized illustration of benefits will be provided to you by our consultant. Please refer to the notes in the illustration for detailed understanding of the various Terms and Conditions; you are required to fully understand the illustration and other terms and conditions of the plan.
- Service Charges and taxes will be applicable as per the Bank's schedule of charge and taxation laws as stipulated by relevant authorities.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SHARIAH COMPLIANCE CERTIFICATE
UNDER RULE 26(1)(e) OF TAKAFUL RULES, 2012
FOR EFU LIFE ASSURANCE LTD – WINDOW TAKAFUL OPERATIONS**

In the capacity of Shariah Advisor of EFU Life Assurance Ltd – **Window Takaful Operations**, I certify that I have reviewed the EFU Takaful Accelerated Saving Plan marketed through National Bank Pakistan Limited. It is based on the **Wakalah-Waqf** takaful model. I have also examined all relevant processes and documents including the Participants Membership Document.

Based on Shariah rulings and to the best of my knowledge and belief, the **EFU Takaful Accelerated Saving Plan** of EFU Life Assurance Ltd – Window Takaful Operations, investment policy of the Takaful fund, relevant documents and processes are all Shariah compliant.

In my opinion, it is permissible from the Shariah point of view to obtain membership in this product and benefit from it. And Allah knows the best

Dated: 24th March 2025

محمد ابراہیم



Mufti Muhammad Ibrahim Essa
Shariah Advisor

EFU LIFE ASSURANCE LTD.

EFU Life House, Plot No. 112, 8th East Street, Phase I, DHA, Karachi, Pakistan
Fax: (021) 3453-7519 Email: csd@efuhemayahtakaful.com



HEMAYAH
EFU FAMILY TAKAFUL



ای ایف یو تکافل ایکسیلر بیٹیڈ سیونگنز پلان

آپ کی بچت کو تقویت، آپ کے کل کو تحفظ

ای ایف یو تکافل ایکسیلریٹیو سیونگز پلان

ای ایف یو لائف تکافل ایکسیلریٹیو سیونگز پلان ایک شریعہ کیپلائٹ، پونٹ لکڈ انویسٹمنٹ تکافل ہے جو سنگل لمپ سہمنٹ کے ذریعے لاگت ٹرم فنڈنگل گروتھ اور پروفیکشن کو میکسیمائز کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جس سے سالانہ کنٹری بیوشنز اور ایڈیشنل ٹیکسٹیل ختم ہو جاتا ہے۔

یہ پلان تکافل ہائبرڈ سلوشن کنٹری کو ایک بار انویسٹ کرنے اور سیونگز کو ایکسیلریٹیو کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس سے ہائر انیشل پونٹ الائیڈیشن کے ذریعے اعلیٰ ریک ایون حاصل ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ریٹرنز ملتے ہیں۔

ساتھ ہی کمپری ہینسو تکافل کو ترجیح آپ کے پیاروں کو پلان کی پوری مدت میں پروفیکشن فراہم کرتی ہے، جو حقیقی ٹیس آف مائنڈ دیتی ہے۔ یہ پلان ای ایف یو لائف۔ ونڈ تکافل آپریشنز کے شریعہ ایڈوائزڈ وائزڈ مشقی محمد ابراہیم عبسی کی ریویو اور اپروول کے بعد پیش کیا گیا ہے، جو جامعہ دارالعلوم کراچی کے ممتاز اسکالر ہیں اور اسلامک فنانس اور تکافل میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔

پروڈکٹ کا اظہار:

یہ ایک فیملی تکافل پروڈکٹ ہے جس میں دو سسٹم انٹیگرنیشن شامل ہیں یعنی پروفیکشن اور انویسٹمنٹ۔

انویسٹمنٹ کمپوینٹ پونٹ لکڈ فنڈز کی پرفارمنس سے لکڈ ہوتا ہے۔

پروڈکٹ کا اظہار:

اس فیملی تکافل پروڈکٹ کی دو نمایاں خصوصیات یہ ہیں: تکافل کا تحفظ اور سرمایہ کاری سرمایہ کاری منسلک ہے پونٹ لکڈ فنڈ (فنڈز) میں موجود اثاثہ جات کی کارکردگی سے

غور و فکر کا دورانیہ (فری لک پیریڈ):

اگر آپ میمبر شپ دستاویز کی وصولی کے چودہ دن کے اندر اپنی رکنیت منسوخ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ای ایف یو لائف۔ ونڈ تکافل آپریشنز بطور فائدے کے طبی یا کلینکل معائنہ کے سلسلے میں پیش آنے والے اخراجات منہا کر کے کنٹری بیوشن کے مساوی رقم کی ادائیگی کا انتظام کرے گی

اہم تفصیلات

الہیت کی عمر	18-65 سال (انگلے سالگرہ کے مطابق)
کم از کم کنٹری بیوشن	20,000 روپے زیادہ سے زیادہ کنٹری بیوشن کی کوئی حد مقرر نہیں
کنٹری بیوشن کی ادائیگی کی مدت	10 سال
کوئٹہ کی مدت	15 یا 20 سال (زیادہ سے زیادہ 80 سال تک)
سم کورڈ	سالانہ کنٹری بیوشن x کوئٹہ کی مدت

بڑھوتری اور نشوونما کے لئے مواقع:

تمام فنڈز کی رسک پروفائیٹنگ ان میں کی جانے والی سرمایہ کاری کے تحت کی گئی ہے

فنڈز		
ای ایف یو تکافل گروٹھ فنڈ	ای ایف یو تکافل کنزرویٹو فنڈ *	ای ایف یو تکافل ایگریسو فنڈ
فنڈ کی قسم: متوازن	فنڈ کی قسم: انکم فنڈ	فنڈ کی قسم: ایگریسو
رسل پروفاصل: درمیانی	رسل پروفاصل: کم	رسل پروفاصل: زیادہ
یہ یونٹ سے منسلک ایک شرکا ہ تکافل سرمایہ کار فنڈ (پی آئی ایف) ہے جو شریعت کے مطابق سرمایہ کاریوں پر مشتمل ہے۔ فنڈ کا مقصد ایک پورٹ فولیو کے پیچھا ڈالیں سرمایہ کاریوں کی ایک وسیع رینج میں جیسے کہ اسلاک میوچل فنڈز، منظور شدہ مالی انویسٹمنٹس، اسلامی بینکوں میں ٹرم ڈپازٹ اور رسلو کاغذ زنجیری آئٹموں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر کے حاصل شدہ سرمائے کو یادہ سے فروغ دینا ہے۔	ای ایف یو تکافل کنزرویٹو فنڈ سرمایہ کاری کی تخصیص کی ایک مختلط حکمت عملی رکھتا ہے اور اس میں کم خطرہ شامل ہوتا ہے۔ یہ شریعت کے مطابق حکمت عملی کیپو رٹیز، شریعت کے مطابق غیر ایکویٹی میوچل فنڈز، شریعت کے مطابق قلیل المدت ڈپازٹس، اسلامی بینکوں میں پلمرچ بینکوں کی اسلاک ونڈوز میں دی جانے والی حدات میں نقد پر مشتمل یونٹ سے منسلک شرکا ہ تکافل سرمایہ کاری فنڈ (پی آئی ایف) ہے۔	یہ یونٹ سے منسلک شرکا ہ تکافل سرمایہ کاری فنڈ (پی آئی ایف) ہے جو شریعت کے مطابق سرمایہ کاری پر مشتمل ہے۔ اس کا مقصد مارکیٹ کی متوقع تیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمائے کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے۔

متحدہ فنڈز کی سہولت (ملٹیل فنڈز آپشن): اس سہولت کے تحت، آپ پلان کے یونٹ سے منسلک دو فنڈز کے مرکب کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ فنڈز کو 10 فیصد کے ملٹیل کے تحت منتخب کیا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فنڈز کو 10/20.90/30.80/40.70/50.60/50 میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔


ای ایف یو کنزرویٹو فنڈز خود کار طور پر منتخب کیا جائے گا

تکافل کیا ہے؟

تکافل ماہرین شریعت کی زیر نگرانی تیار کردہ باہمی تعاون کے اصولوں پر مبنی تحفظ اور سرمایہ کاری کا طریقہ کار ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق آپ کو اور آپ کے پیاروں کو مستقبل میں آنے والی مالی پریشانیوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تکافل پروڈکٹس کے ذریعے باہمی تعاون اور بھائی چارے کی بنیادوں پر تکافل پلان کے شرکا کو غیر متوقع جانی اور مالی نقصانات کی صورت میں مالی تعاون فراہم کیا جاتا ہے۔

تکافل ممبر شپ کیسے کام کرتی ہے؟

ای ایف یو لائف کا تکافل ماڈل وکالتہ وقف کے اصولوں پر مبنی ہے جس میں معاشرے کے کچھ افراد ایک اجتماعی مقصد کے لئے یکجا ہوتے ہیں اور تکافل آپریٹر کے زیر انتظام وقف فنڈ میں پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ وہ خود کو مستقبل میں ہونے والے مالی نقصانات سے محفوظ کر سکیں۔ درج تصویر میں خاکہ اس چیز کا خلاصہ بیان کرتا ہے کہ آپ کی تکافل رکنیت ای ایف یو لائف ونڈ تکافل آپریشنز کے ساتھ کس طرح کام کرے گی:



سرپلس شیئرنگ کیا ہے؟

یہ تکافل پلان شریک تکافل کو مالی خطرات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ سرپلس کی تقسیم کی منفرد خصوصیت بھی پیش کرتا ہے شریک تکافل وقف فنڈ میں تبرع کی بنیاد پر زرتکافل دے کر وقف کی شرائط کے مطابق سرپلس کی تقسیم میں حصہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر سال کے آخر میں، ای ایف یولائف اپنے شریعہ مشیر اور مقرر کردہ ایچو ری کی منظوری سے قابل تقسیم سرپلس کا تعین کرے گی۔

سرپلس شیئرنگ کے فوائد کیا ہیں؟

اضافی سرمایے کا ایک حصہ پارٹنیشنس انویسمنٹ اکاؤنٹ (پی آئی اے) میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ اضافی یونٹس/بونس آپ کے پلان کی نقد مالیت پر بے حیثیت مجموعی مثبت اثر ڈالتے ہوئے، اس میں نمایاں اضافہ کرتے ہیں۔

تبرع برائے وقف:

شریک تکافل کی عمر اور زرتحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے زرتکافل سے کچھ رقم پارٹنیشنس تکافل فنڈ (پی ٹی ایف) میں منتقل کی جائے گی۔

فوائد:

فوائد بصورت فونگی (ڈیجھ پیفٹ):

موت کی صورت میں ادا کیا جانے والا پیفٹ درج ذیل کے برابر ہوگا:

پلان کے سم کورڈ اور بیسک کنٹری بیوشن کے خلاف الا کیڈ یونٹس کی کیش ویلیو کا مجموعہ۔

پلس

ایف اے سی پیمنٹس کے خلاف الا کیڈ یونٹس کی کیش ویلیو (اگر کوئی ہو)

میجوریٹی پیفٹ:

پلان کے اختتام پر اور جب پارٹنیشنٹ زندہ ہو، تو میجوریٹی پیفٹ درج ذیل کے مطابق ادا کیا جائے گا:

• کیش ویلیو آف یونٹس الا کیڈ اگینسٹ بیسک پلان کنٹری بیوشن پلس

• کیش ویلیو آف یونٹس الا کیڈ اگینسٹ ایف اے سی (اگر کوئی ہو)

سم کورڈ:

سم کورڈ کا تعین:

سم کورڈ = اینول کنٹری بیوشنز ٹائم

بلٹ ان پیفٹ:

• تکافل ایکٹیوٹل ڈیجھ پیفٹ:

شرکت دار کی حادثاتی موت کی صورت میں ایک اضافی یکمشت فائدہ ادا کیا جائے گا۔ فائدے کی رقم قدرتی موت کے فائدے کے برابر ہوگی، بشرطیکہ زیادہ سے زیادہ فائدے کی رقم 10 لاکھ روپے (1PKR ملین) ہو۔ یہ تکافل حادثاتی موت کا فائدہ اس صورت میں لاگو ہوگا جب اگلی سالگرہ کے لحاظ سے عمر 60 سال سے کم ہو۔

ضمنی فوائد:

• تکافل ایکسڈنٹل ڈیجھ اینڈ ڈس ایبیلیٹی بینیفٹ پلس:

یہ بینیفٹ پارٹیسپنٹ کی حادثاتی موت یا مستقل اور مکمل معذوری کی صورت میں ایڈیشنل لپ سیم بینیفٹ فراہم کرتا ہے۔ اس بینیفٹ کی کنٹری بیوشن پورے بینیفٹ پیمنٹ ٹرم کے لیے ممبر شپ کے آغاز پر لپ سیم پیمنٹ کی صورت میں ادا کی جائے گی

یونٹ کی ایلوکیشن:

شریک تکافل کے کنٹری بیوشن کی سالانہ مختص کی جانے والی فیصد ذیل میں دی گئی ٹیبل میں دکھائی گئی ہیں:

پالیسی سال	ایلوکیشن	ایلوکیشن کی چارجز*
1	65 فیصد	35 فیصد
2	85 فیصد	15 فیصد
3 سے 10	105 فیصد	—

فنڈ ایکسکلیوشن کنٹری بیوشن کا 100 فیصد نوٹس کی خریداری کے لیے مختص ہوگا

* اوپر درج ٹیبل کے مطابق ہر سال ادا کئے گئے کنٹری بیوشن / ازرتکافل میں سے تخصیص کی فیس منہا کی جائے گی اور بقایا رقم اکاؤنٹ ویلیو کو مختص کی جائے گی

کوورڈ ملٹیل

عمر	کوورڈ ملٹیل	
	کم سے کم	زیادہ سے زیادہ
18-35	5	35
36-40	5	25
41-49	5	10
50-65	5	

اینشل فنڈ ایکسکلیوشن کنٹری بیوشن اور فرسٹ ریگولر کنٹری بیوشن

فرسٹ ریگولر کنٹری بیوشن کو مین پلان میں الاکیٹ کیا جائے گا جیسا کہ الاکیشن میں ذکر ہے، اور باقی رقم اینشل ایف اے سی کے طور پر الاکیٹ ہوگی۔

ہر ممبر شپ اپنی دوسری پر مین پلان کنٹری بیوشن کی رقم کیش ویلیو سے منہا کی جائے گی اور مین پلان میں ری انویسٹ ہوگی۔

یہی عمل بینیفٹ مچھوڑنے تک جاری رہے گا۔

سب سیکورٹ فنڈ ایکسیلیریشن کنٹری بیوشن (ایس ایف اے سی):

اگر پارٹنر شپ کے پاس اضافی فنڈز دستیاب ہوں تو پلان میں انہیں شامل کرنے کی سہولت ہے تاکہ سیونگز کو بوسٹ کیا جاسکے۔
یہ لپ سم کنٹری بیوشنز "سب سیکورٹ فنڈ ایکسیلیریشن کنٹری بیوشنز" کہلاتی ہیں اور پلان کے دوران کسی بھی وقت ادا کی جاسکتی ہیں۔

مکمل اور جزوی دستبرداری:

دو سال کے مکمل کنٹری بیوشن ادا کر دئے جانے سے پہلے دستبرداری کی صورت میں ونڈ وٹکافل آپریٹنگل نقد قدر کے 50 فیصد کے مساوی اضافی وکالینڈ الاسٹیمارٹس چارج کرے گا۔ دستبرداری کے وقت، آپ کو اپنے فنڈ کی کل نقد قدر ادا کی جائے گی۔ البتہ، کنیت کے ابتدائی سالوں میں نقد قدر کم ہونے کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ جزوی دستبرداری فنڈ میں 20,000 روپے موجود رہنے سے مشروط ہے۔ اگر صارف مکمل دستبرداری کا انتخاب کرتا ہے تو تمام یونٹس کو کیش ویلیو میں تبدیل کر دیا جائے گا اور پلان کو ختم کر دیا جائے گا۔

افراط زر (انڈیکسیشن):

یہ پلان آپ کو فی سکون اور اس بات کا تحفظ فراہم کرتا ہے کہ آپ کی صحت سے قطع نظر آپ کے منصوبے سے ملنے والے فوائد خود یہ خود افراط زر کی شرح کے مطابق بڑھ جائے گے۔ ایک بار جب آپ اس سہولت کا انتخاب کر لیتے ہیں تو کنٹری بیوشن ہر سال کے ابتدائی کنٹری بیوشن سے 5 فیصد بڑھے گا اور ساتھ ہی فوائد میں بھی مناسب طور پر اضافہ ہوگا۔

دعویٰ (کلیم):

کسی بھی ناگہانی کی صورت میں، آپ اپنے دعویٰ (کلیم) کی اطلاع نیشنل بینک آف پاکستان کی کسی بھی شاخ میں جا کر، ای ایف یو ہیڈ آفس آکریا ملک میں ای ایف یو کی کسی بھی شاخ میں جا کر دے سکتے ہیں۔ فوری عمل درآمد کے لئے آپ ہمارے کال سینٹر 021-111-338-436 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ پر موجود اطلاع فارم بھریں اور ہمیں cod@efuhemayatkaful.com پر ای میل کر دیجئے۔ بعد ازاں، اگلے مراحل سے آگاہ کرنے کے لئے آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔

اخراجات (چارجز کیا ہیں؟)

چارجز	ریٹ/پاکستان روپے میں
انتظامی اخراجات (ایڈمنسٹریشن چارج)	960 روپے سالانہ
سرمایہ کاری انتظامات اخراجات (انویسٹمنٹ مینجمنٹ چارج)	فنڈ قدر کا 0.125 فیصد ماہانہ
بذ/آفر (بولی/بیکش) سپرڈ	مختص شدہ بنیادی اور اضافی فنڈ کنٹری بیوشن کا 5 فیصد
فنڈ تبدیل کرنے کی فیس	500 روپے
اضافی وکالینڈ الاسٹیمارٹس چارج	دو سال کے مکمل کنٹری بیوشن ادا کر دیئے جانے سے پہلے دستبرداری کی صورت میں کل نقد قدر کے 50 فیصد کے مساوی اضافی وکالینڈ الاسٹیمارٹس فیس چارج کیا جائے گا۔

تکافل ڈونیشن (وقف ڈونیشن):

- شریک تکافل کی عمر اور سم ایٹ رسک کے حساب سے ایکچوریل کی طرف سے مقرر کردہ رقم جو کہ شریک تکافل فنڈ میں ہر سال جمع کی جائیگی۔ البتہ جب کیش ویلوسم کورڈ (ذرتحفظ) سے بڑھ جائے تو تکافل ڈونیشن کی مد میں کوئی رقم منہا نہیں کی جائے گی۔
- **وقف فنڈ سے وکالہ خرچ:**
- تکافل عطیے کا 50 فیصد

انتباہ:

- اس پروڈکٹ کی انڈر رائٹنگ ای ایف یولائف ونڈو تکافل آپریشنز کی طرف سے کی گئی ہے۔ یہ نیشنل بینک آف پاکستان یا اس سے وابستہ کسی بھی ادارے کی طرف سے ضمانت شدہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ نیشنل بینک آف پاکستان کی پروڈکٹ ہے۔ چنانچہ ای ایف یولائف کے انڈر رائٹنگ تمام خطرے کے لئے ذمہ دار ہے۔
- نیشنل بینک آف پاکستان اپنے قابل قدر صارفین کے لئے اس پروڈکٹ کے لئے صرف بہ طور پروموٹ/تقسیم کار اور کارپوریٹ تکافل ایجنٹ کام کر رہا ہے۔
- تکافل پالیسیوں سے متعلق تکافل کے تمام کلیمز، اخراجات اور ادائیگیوں کے انتظامات ای ایف یولائف ونڈو تکافل آپریشنز کی مکمل اور مخصوص ذمہ داری ہونگے
- پلان میں کئے گئے کنٹریبوشنز فنڈز کی سرمایہ کاری فنڈز میں کی جاتی ہے۔
- فنڈ کی آئندہ کی کارکردگی کا لازمی دار و مدار پچھلی کارکردگی پر نہیں ہوتا۔ کسی قسم کا پیشگی اندازہ ضروری نہیں کہ مستقبل کی ترجہانی کرے یا فنڈز کی ممکنہ کارکردگی کو بیان کرے اور نہ ہی ای ایف یولائف ونڈو تکافل آپریشنز اور نہ ہی دئی اسلامک بینک اس قسم کی کسی چیز کا ذمہ دار ہوگا
- فوائد کی ایک انفرادی وضاحت ہمارے کنسلٹنٹ کی طرف سے آپ کو فراہم کی جائے گی۔ ازراہ کرم مختلف شرائط و ضوابط کی تفصیلی وضاحت حاصل کرنے کے لئے پالیسی دستاویز کا مطالعہ کریں؛ آپ کی جانب سے پلان کی شرائط و ضوابط کی مکمل تفہیم مطلوب ہے
- سروس اخراجات اور ٹیکسیز کا اطلاق بینک کے شیڈول آف چارجز اور متعلقہ اتھارٹیوں کی طرف سے مقررہ ٹیکس قوانین کے مطابق ہوگا۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرعیہ کمپلائنس سرٹیفکیٹ

ای ایف یولائف ایشورنس لمیٹڈ - ونڈو تکافل آپریشنز

ای ایف یولائف ایشورنس لمیٹڈ - ونڈو تکافل آپریشنز کے شرعی مشیر ہونے کی حیثیت سے میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے ای ایف یو تکافل ایکسیلریٹڈ سیونگز پلان کا جائزہ لیا ہے جو کہ دینی اسلامک بینک پاکستان لمیٹڈ کے توصل سے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ تکافل پلان وقف اور وکالت کے اصولوں پر مبنی ہے۔

نیز میں نے اس مذکورہ اسکیم کے دستاویزی کاغذات اور متعلقہ دیگر امور بشمول سرمایہ کاری وغیرہ کا بغور مطالعہ کیا ہے اور بحمد اللہ میں نے ان تمام امور کو شریعت کے مطابق پایا ہے۔ لہذا میری رائے میں ای ایف یولائف ایشورنس لمیٹڈ - ونڈو تکافل آپریشنز کی مذکورہ اسکیم کی رکنیت حاصل کرنا اور اس سے فوائد حاصل کرنا شرعاً جائز ہے۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

تاریخ: ۲۲ مارچ ۲۰۲۰ء

محمد اسحاق

مفتی محمد ابراہیم عیسیٰ
شرعی مشیر



ای ایف یولائف ایشورنس لمیٹڈ

ای ایف یو ہاؤس، پلاٹ نمبر 112، 8th اسٹریٹ، فیرون، ڈی ایچ اے، کراچی، پاکستان۔

فیکس: 3453-7519 (021) ای میل: csd@efuhemayahtakaful.com